



ٹومیسٹک سیزن 20-2019ء کے لیے میڈیا پاسز تیار

لاہور، 11 ستمبر 2019ء :

پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی میڈیا سروسز میں بہتری اور میڈیا نمائندگان کو احسن انداز میں ذمہ داریاں نبھانے کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے سلسلے میں ٹومیسٹک سیزن 20-2019 کے لیے پاسز تیار کر لیے ہیں۔ میڈیا پاسز کا اجراء رواں سال 26 جولائی سے 16 اگست تک جاری رہنے والے میڈیا رجسٹریشن عمل سمیت متعلقہ اداروں کے عہدیداران کی جانب سے فراہم کی گئی معلومات کے بعد کیا گیا ہے۔

لاہور، کراچی، ملتان اور راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے صحافی اپنے میڈیا پاسز پی سی بی کے نمائندگان سے وصول کر سکتے ہیں جبکہ دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو میڈیا پاسز ان کی جانب سے فراہم کیے گئے پتے پر بذریعہ ڈاک بھجوائے جارہے ہیں۔

معزز صحافی اپنے پاسز دکھا کر میڈیا ورکنگ ایریاز میں جانے کے ساتھ ساتھ پی سی بی کے زیر اہتمام پریس کانفرنسز سمیت دیگر تقاریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔

یہ پاسز بین الاقوامی مقابلوں اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے لیے استعمال نہیں کیے جاسکتے ہیں۔ ان ایونٹس کے لیے ایکریڈیشن کا عمل جلد شروع کر دیا جائے گا۔

میڈیا پاسز کی وصولی کے لیے تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

لاہور:

11 سے 12 ستمبر: دوپہر 12 سے شام 4 بجے تک، فار اینڈ بلڈنگ قذافی اسٹیڈیم لاہور،
برائے رابطہ: شکیل خان
13 ستمبر: صبح 11 سے شام 4 بجے تک، فار اینڈ بلڈنگ قذافی اسٹیڈیم لاہور، برائے
رابطہ: شکیل خان

کراچی:

11 سے 12 ستمبر: دوپہر 12 سے شام 4 بجے تک، نیشنل اسٹیڈیم، برائے رابطہ: عماد حمید

13 ستمبر: صبح 11 سے شام 4 بجے تک، یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس، برائے رابطہ: عماد حمید

ملتان:

16 سے 20 ستمبر: صبح 11 سے شام 4 بجے تک، ملتان کرکٹ اسٹیڈیم، برائے رابطہ: مدثر تارڑ

راولپنڈی:

11 سے 18 ستمبر: صبح 11 سے شام 4 بجے تک، پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، برائے رابطہ: نثار احمد

– ENDS –

Media contacts:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4